



سوال

(242) ایام حیض میں باکرہ عورت کا نکاح جائز ہے یا نہیں؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایام حیض میں باکرہ عورت کا نکاح جائز ہے یا نہیں؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

باکرہ ہویا نیمہ دونوں کا نکاح ایام حیض میں جائز ہے۔ لیکن ملاپ جائز نہیں جب تک پاک نہ ہو جائے۔

تاقب

اخبار البحریت مورخہ 7 رجب 49 ۳۰۰ مطابق 28 نومبر 30 ۳۰۰ کے فتویٰ کے سوال نمبر 17 میں ہے۔ "زید نے اپنی بیوی فاطمہ کو ایک طلاق رجعی دی رجعی طلاق کے اندر اندر اپنی حقیقی سالی بندہ سے نکاح کر لیا تو جائز ہوگا یا نہیں؟ (سائل خریدار نمبر 8795)

جواب۔ نکاح جائز ہے۔ مگر پہلی بیوی سے رجوع جائز نہ ہوگا۔

شریعت طلاق رجعی دو تک ہے اور عدت کے لئے بعد طلاق جینے مرد کے خواہ رجعی طلاق دے یا بائن تین حیض تک انتظار کرنے کا حکم ہے۔ یہ بھی صراحتاً ذکر ہے۔

وَوُعُوْلَتُهُنَّ اَحْتٰ بِرُوْدِهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا ۚ ۲۲۸ سورة البقرہ

خلاصہ یہ کہ طلاق رجعی کی صورت میں عدت کے اندر اندر عورت نکاح سے باہر نہیں ہوتی لہذا اثابت ہو کہ جب تک زید کی منکوحہ فاطمہ مطلقہ بطلاق رجعی کی عدت گزار نہ جائے عدت کے اندر اندر زید کا نکاح کرنا اپنی حقیقی سالی بندہ سے صحیح نہ ہوگا۔

اگر آپ یہ کہیں کہ زید کا فاطمہ کی عدت کے اندر اندر فاطمہ کی حقیقی بہن بندہ (سالی زید) سے نکاح کر لینا گویا فاطمہ کو طلاق بائن دینا ہے۔ تو جو با عرض ہے کہ اگر کسی کی چار بیویاں ہوں اس حالت میں ایک اور عورت سے نکاح کر لے تو پہلی چار میں سے کوئی ایک ضرور بانٹہ ہونی چاہیے۔ کیونکہ چار سے زیادہ حرام ہے۔ حالانکہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ واللہ اعلم



بالصواب (خاکسار ابو اخیر و م سلفی بردوانی)

مفتی

یہ تو ظاہر ہے کہ مرد پر عدت نہیں۔ یہاں طلاق رجعی کے بعد دو صورتیں ہیں۔

فَانْتَاكَ بِمُغْرَوَاتٍ اَوْ تَسْرِيْحٍ بِاِحْسَانٍ

سالی کے ساتھ نکاح کرنے سے معلوم ہوا کہ مطلق نے تسریحی صورت اختیار کی۔ بس اس کے بعد کچھ ہے۔ تو یہ کہ وہ امساکی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہاں آپ کی چار بیویوں والی مثال قیاس مع الغیر ہے۔ کیونکہ اس میں طلاق نہیں طلاق رجعی دے کر بے شک پانچویں سے نکاح کر لے یہ قیاس صحیح ہے۔

هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

فتاویٰ شنائیہ امرتسری

جلد 2 ص 196

محدث فتویٰ